



## سوال

(404) اگر سفر میں آسانی اور سہولت ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مسافر کے روزے کے بارے کیا حکم ہے جب کہ عصر حاضر میں جدید ذرائع آمد و رفت کے باعث روزہ رکھنا مسافر کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

مسافر روزہ رکھ سکتا ہے اور چھوڑ بھی سکتا ہے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ... سورة البقرة

”اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں (روزہ رکھ کر) ان کا شمار پورا کر لے۔“

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تو ان میں سے بعض روزہ رکھ لیتے اور بعض روزہ نہ رکھتے لیکن ان میں سے کوئی کسی پر عیب نہ لگاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے:

«سافرنا مع النبي في شهر رمضان في حَرَشَيْدٍ - وَنَا مَنَاصِمَ الْأَرْسُولِ اللَّهِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ زُوَايَةَ» (صحیح البخاری، الصوم، باب بعد باب: إذا صام إيا من رمضان ثم سافر، ج: ۱۹۳۵ و صحیح مسلم، الصيام، باب التيميم في الصوم والفطر في السفر، ج: ۱۱۲۲ واللفظ له)

”ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماہ رمضان میں سخت گرمی کے موسم میں نکلے“ وہ بیان کرتے ہیں کہ ”ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے سوا اور کوئی روزہ دار نہ تھا۔“

مسافر کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ اسے روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کے بارے میں اختیار ہے اگر روزہ رکھنے میں مشقت نہ ہو تو پھر روزہ رکھنا افضل ہے کیونکہ اس میں درج ذیل تین فوائد ہیں:

(۱) اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا ہے۔



(۲) اس میں سہولت ہے کیونکہ انسان جب دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر روزہ رکھے تو اس میں آسانی ہوتی ہے۔

(۳) اس سے انسان جلد بری الذمہ ہو جاتا ہے اور اگر روزہ رکھنے میں دشواری ہو تو نہ رکھے کیونکہ اس حالت میں سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص کو دیکھا کہ اس پر سایہ کیا گیا ہے اور لوگوں کا اس پر ہجوم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: ”یہ کیا ہے؟“ صحابہ نے بتایا کہ ایک روزہ دار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ» (صحیح البخاری، الصوم باب قوم النبی لمن نخل علیہ واشتد الحر: ”لیس من البر الصیام فی السفر“ ح: ۱۹۳۶ و صحیح مسلم، الصیام، باب جواز الصوم والفظر فی شہر رمضان للمسافرین من غیر معصیۃ، ح: ۱۱۱۵)

”سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔“

اس عموم کو ایسے شخص پر محمول کیا جائے گا جسے روزہ رکھنا بہت گراں محسوس ہوتا ہو، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عصر حاضر میں سفر آسان ہے، جیسا کہ سائل نے کہا اور اکثر و بیشتر صورتوں میں روزہ گراں محسوس نہیں ہوتا، لہذا افضل یہ ہے کہ روزہ رکھ لیا جائے۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

## فتاویٰ ارکان اسلام

عقائد کے مسائل: صفحہ 377

محدث فتویٰ